

قرآن خوانی

By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

قرآن خوانی کا سب سے بہتر طریقہ

قرآن خوانی کا سب سے بہتر طریقہ جو اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص پڑھے اور باقی لوگ پوری توجہ سے سنیں۔ کوشش کریں کہ اگر پہلی محفل میں پہلا سپارہ پڑھا ہے تو دوسری محفل میں اس سے آگلا سپارہ پڑھیں اور تیسری میں اس سے آگلا سپارہ – اس طرح انشاءً اللہ چند سالوں میں پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا جا سکے گا – کیا پتہ اللہ اس کوشش کرنے پر ہمیں ہزار گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ثواب دے – آمین –

اے مومنوں – جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو – اور اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو – خبردار – کسی بھی وقت غافل نہ ہونا – سورۃ الاعراف آیات 205-204

اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ

اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ بعد ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں –

تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا

تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہے – اگر عربی سمجھ نہیں آتی تو ترجمہ ضرور پڑھیں – جس طرح کچھ اسکولوں میں بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان پڑھانے کے لیے سب مل کر انتظامیہ سے درخواست کریں اور اللہ سے ضرار دعا کریں کہ بچوں کو عربی زبان پڑھانے کا کوئی مناسب انتظام ہو جائے – آمین –

حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے – کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے – سورۃ البقرہ آیت 44

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے – آمین –

ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو بے کوی نصیحت حاصل کرنے والا – سورۃ القمر آیات 17، 22، 32، 40

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://www.global-right-path.com>

Email to global-right-path+subscribe@googlegroups.com to subscribe